



AnNaba

النبا

النبأ

In the name of Allah,
Most Gracious, Most
Merciful.

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان
نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. About what are they
inquiring.

کس بارے میں یہ پوچھتے ہیں۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾

2. Concerning the
news, the great one.

اس خبر کی نسبت جو بہت بڑی ہے۔

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿٢﴾

3. That they, about
which, are disagreeing.

وہ یہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔

الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾

4. Nay, they shall
soon know.

ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے۔

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

5. Then nay, they
shall soon know.

پھر ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں
گے۔

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

6. Have We not made
the earth resting place.

کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾

7. And the mountains
as stakes.

اور پہاڑوں کو میخیں۔

وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿٧﴾

8. And We have
created you as pairs.

اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑا جوڑا۔

وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾

9. And We have made
your sleep (a means)
for rest.

اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو
(موجب) آرام۔

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

10. And We have made
the night as a covering.

اور بنایا ہم نے رات کو پردہ۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

11. And We have made the day for livelihood.

اور بنایا ہم نے دن کو معاش کے لئے۔

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

12. And We have built above you seven strong (heavens).

اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان)۔

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدِيدًا ۝

13. And We have made a lamp, bright.

اور بنایا ہم نے ایک چراغ روشن۔

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝

14. And We sent down from the rain clouds water in abundance.

اور نازل کیا ہم نے نچڑتے بادلوں سے پانی موسلا دھار۔

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝

15. That We may produce thereby grain and vegetation.

تاکہ ہم پیدا کریں اس سے اناج اور نباتات۔

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا ۝

16. And gardens of thick growth.

اور باغات گھنے۔

وَ جَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝

17. Indeed, the Day of Judgment is an appointed time.

بیشک فیصلے کا دن ہے ایک وقت مقرر۔

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝

18. The day when the Trumpet is blown, then you shall come forth in multitudes.

جس دن پھونکا جائے گا صور میں تو تم آموجود ہو گے فوج در فوج۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝

19. And the heaven will be opened, so will be as gates.

اور آسمان کھولا جائے گا تو ہو جائے گا جیسے دروازے۔

وَ فَتُحْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

20. And the mountains will be moved, so they will be as a mirage.

اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے جیسے سراب۔

وَ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

21. Indeed, Hell is a place of ambush.

بیشک دوزخ ہے گھات میں۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

22. For the rebellious,
a dwelling place.

سرکشوں کیلئے ٹھکانہ۔

لِّلطَّغِيۡنِ مَأۡبَآءٌ

23. They shall remain
lodged therein for ages.

پڑے رہیں گے اس میں مدتوں۔

لِّيَبۡثِنَ فِيهَاۤ اٰحۡقَابًا

24. They shall not
taste therein coolness,
nor drink.

نہ چکھیں گے وہ مزہ اس میں ٹھنڈک
کا اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز۔

لَا يَذۡوُقُوۡنَ فِيهَاۤ اَبۡرًا وَّ لَا
شَرَابًا

25. Except boiling water
and wounds discharge.

سوائے کھولتا پانی اور بدبودار پیپ۔

اِلَّا حَمِيۡمًا وَّ عَسَاۡقًا

26. A recompense,
appropriate (of deeds).

بدلہ ہے موافق (اعمال کا)۔

جَزَاۗءٍ وَّ فَاۡتَاۡتًا

27. Indeed, they were
not expecting any
reckoning.

بیشک یہ امید نہیں رکھتے تھے
حساب کی۔

اِنَّہُمْ كَانُوۡا اِلَّا يَرۡجُوۡنَ حِسَابًا

28. And they had
denied Our verses as
utterly false.

اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو
جھوٹ جیسا۔

وَ كَذَّبُوۡا بِآيٰتِنَا كِذَّٰبًا

29. And every thing
have We recorded in a
Book.

اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے
ایک کتاب میں۔

وَ كُلَّ شَیۡءٍ اَحۡصٰیۡنٰہٗ کِتٰبًا

30. So taste, for never
shall We increase you
except in torment.

سو مزہ چکھو۔ پس ہرگز نہیں بڑھاتے
جائیں گے ہم تم پر مگر عذاب۔

فَذُوۡقُوۡا فَلَنۡ نَّزۡیِدَکُمۡ اِلَّا
عَذَابًا

31. Indeed, for the
righteous there is an
abode of success.

بیشک پرہیزگاروں کے لئے ہے
مقام کامیابی۔

اِنَّ لِلۡمُتَّقِیۡنَ مَفَاۡزًا

32. Gardens and
grapevines.

باغات اور انگور۔

حَدٰیۡقٍ وَّ اَعۡنَابًا

33. And maidens of
equal age.

اور نونیز عورتیں ہم عمر۔

وَ کَوَاعِبَ اٰتَرًا

34. And cup filled to
the brim.

اور جام چھلکتا ہوا۔

وَ کَاسًا دِهَاقًا

35. They shall not hear therein idle talk, nor falsehood.

نہ سنیں گے وہ وہاں بیہودہ بات اور نہ جھوٹ۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ﴿٣٥﴾

36. A reward from your Lord, a generous gift due by account.

صلہ تمہارے رب کی طرف سے انعام حساب کے مطابق۔

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

37. Lord of the heavens and the earth, and whatever is between them, the Beneficent, They possess no power before Him to speak.

رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ بڑا مہربان نہیں اختیار ہوگا ان کو اس کے سامنے بات کرنے کا۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

38. The Day shall stand, the Spirit and the angels, in ranks. They shall not speak except him whom permits the Merciful and who speaks what is right.

جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے صف باندھ کر۔ نہ بول سکیں گے مگر وہ اجازت بخشے جسکو رحمن اور وہ کہے بات بھی درست۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۚ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

39. That is the true day. So whoever wills, let him take with his Lord a place.

وہ دن برحق ہے۔ پس جو چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾

40. Indeed, We have warned you of the torment which is near. The day, man will see what have sent forth his hands, and will say the disbeliever: "Would that I were dust."

بیشک ہم نے آگاہ کر دیا ہے تمکو عذاب سے جو قریب ہے۔ جس دن دیکھ لیگا ہر شخص وہ جو آگے بھیجا ہوگا اس کے ہاتھوں نے اور کہے گا کافر کہ کاش میں ہوتا مٹی۔

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۚ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ وَيَقُولُ الْكٰفِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

